



Reg. No. :

Name :

III Semester B.A./B.Sc. Degree (CBCSS – Regu./Supple./Improve.)

Examination, November 2016

COMMON COURSE IN URDU

3A 09 URD : Tharjuma aur Tharseel

(2014 Admn. Onwards)

Time : 3 Hours

Max. Marks : 40

(8x1=8)

توسین سے مناسب جواب چن کر لکھئے :

1. اندر حسین رائے پوری نے The Good Earth کے ناول کا ترجمہ (1)

کس نام سے کیا؟

(پیدائی زمین) چینی زمین عزیز زمین

2. اردو میں قرآن شریف کا پہلا ترجمہ کس نے کیا؟ (2)

(شاہ عبد القادر) شاہ ولی اللہ شاہ رفیع (الترین)

3. مرکزی حکومت نے کس سال میں ترقی اردو بورڈ کا ادارہ قائم کیا؟ (3)

1900 میں 1903 میں 1898 میں

4. جس کا عمل ہے بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے یہ کس شاعر کا مضمون ہے؟ (4)

(غالب) میر اقبال

5. وضع اصطلاحات کا مصنف کون ہے؟ (5)

(نور احمد) مولانا حالی وحید الدین سلیمان

6. ان میں فورٹ دیم کالج سے تعلق نہ رکھنے والا کون ہے؟ (6)

(الولال بی کوئی) شیر علی افسوس مظہر جان جاتان



- III. درج ذیل سوالوں میں سے کسی پانچ کے مختصر جواب لکھئے :
- (7) Translation کے کتنے مقاصد ہیں ؟
- (8) ایک زبان کے اندر کی زبانیں بولنے والوں کے الفاظ و محاورات پہنچ رہتے ہیں۔
- (9) اپار (چار تین پانچ) کے کیا مراد ہے ؟
- (10) یہ کس کا قول ہے ؟
- (11) (ظیق انجم) قریں (ظر انصاری) میں آئے ؟
- (12) اردو میں ترجمے کی اجتماعی کوشش کا آغاز کس کالج سے ہوتا ہے ؟
- (13) دو اردو ناولوں کے نام بتائیے جو اردو سے ترجمہ ہو کر ملیالم میں آئے ؟
- (14) ذیل کے جملوں کی اصلاح کجھے :
- ہم نے اس بات کی دریافت کیا۔
وہ موئی بہت مہنگی ہے۔
- (15) کس نے ترجمے کو شریفانہ جھوٹ کہا؟
- (16) ارسطو کی Poetics کو اردو میں کیا کہتے ہیں ؟
- (17) نواب عثمان علی خان کے زمانے میں جامدہ عثمانیہ کا ذریعہ تعلیم کیا تھا؟
- (6x1=6) درج ذیل کسی جھے سوالوں کے جواب ایک یا دو سطروں میں لکھئے :
- (18) شعری ترجمہ کرنے کے لئے کن باتوں کا ہونا ضروری ہے ؟
- (19) نثری ترجمے سے کیا مراد ہے ؟
- (20) شعری ترجمہ ناممکن ہے۔ نی۔ لس۔ الیٹ کے اس قول کی صراحت کجھے۔
- (21) دفتری یا عدالتی ترجمے کو پیومند کاری کا ترجمہ کیوں سمجھا جاتا ہے ؟
- (22) شاعری میں جمالیات شعور سے کیا مراد ہے ؟
- (23) لفظ Afraid کے برطانوی اور امریکن طریقہ استعمال کا فرق بتائیے۔
- (24) چند ایسے الفاظ کھے جو دصل میں ایک منٹ اور فصل میں دوسرے منٹ رکھتے ہیں۔
- (25) ذیل کے جملوں کا اردو میں ترجمہ کجھے :

- I am a teacher by vocation.
I feel well after the accident.
She has done research in linguistics.
We shall mingle with dust.
- IV. درج ذیل سوالوں میں سے دو کے جواب تفصیل سے لکھئے :
- (2x8=16) انگریزی Line کے مختلف استعمال کے طریقے قلم بند کجھے۔
- (26) اردو میں "پر" کے استعمال کے مختلف طریقے مثالوں کے ساتھ بیان کجھے۔
- (27) ترجمے کی مختلف قسمیں بتاتے ہوئے موجودہ دور میں اس کی ضرورت اور اہمیت پر روشنی ڈالئے۔
- (28) ترجمہ میں ثقافتی عناصر کے در آنے سے پیش آنے والے عام مسائل کا جائزہ لجھئے۔
- (29) ترجمہ میں ثقافتی عناصر کے در آنے سے پیش آنے والے عام مسائل کا جائزہ لجھئے۔